

Rev

Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς
مکاشفہ یسوع مسیح-کا جو دیا اُسے اُس نے خدا-نے کو دکھانے-کو اُن
[G0602](#) [G2424](#) [G5547](#) [G3739](#) [G1325](#) [G0846](#) [G3588](#) [G2316](#) [G1166](#) [G3588](#)
- δούλοις αὐτοῦ, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. καὶ ἐσήμανεν, ἀποστείλας διὰ
بندوں-کو اُس-کے جو ضرور ہونا-ہے میں جلدی اور ظاہر-کیا کر بھیج-کر ذریعے
[G1401](#) [G0846](#) [G3739](#) [G1163](#) [G1096](#) [G1722](#) [G5034](#) [G2532](#) [G4591](#) [G0649](#) [G1223](#)
- τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ, τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἰωάννῃ,
اُس فرشتہ-کے اپنے اُس بندے-کو اپنے یوحنا
[G3588](#) [G0032](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1401](#) [G0846](#) [G2491](#)

فرشتے اپنے نے اُس ہے۔ انا پیش ہی جلد جسے دکھائے کچھ وہ کو خادموں اپنے وہ تاکہ کیا عطا اُسے نے اللہ جو ہے مکاشفہ سے طرف کی مسیح عیسیٰ یہ
دیا۔ پہنچا تک یوحنا خادم اپنے مکاشفہ یہ کر بھیج کو

- 2 ὁς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ
جس-نے گواہی-دی اُس کلام-کی اُس نے خدا-کے اور اُس گواہی-کی یسوع
[G3739](#) [G3140](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3141](#) [G2424](#)
- Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.
مسیح-کی جو-کچھ دیکھا
[G5547](#) [G3745](#) [G3708](#)

گواہی-کی مسیح عیسیٰ یا ہو کلام کا اللہ خواہ ہے، دی نے اُس گواہی کی اُس ہے دیکھا نے یوحنا بھی کچھ جو اور

- 3 Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς
مبارک وہ پڑھنے-والا اور وہ سننے-والے اُن باتوں-کو اِس
[G3107](#) [G3588](#) [G0314](#) [G2532](#) [G3588](#) [G0191](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#)
- προφητείας, καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα; ὁ γὰρ καιρὸς
نبوت-کی اور ماننے-والے اُن میں اِس لکھی-ہوئی کیونکہ یہ وقت
[G4394](#) [G2532](#) [G5083](#) [G3588](#) [G1722](#) [G0846](#) [G1125](#) [G3588](#) [G1063](#) [G2540](#)
- ἐγγύς.
نزدیک-ہے
[G1451](#)

جلد یہ کیونکہ ہیں، رکھتے محفوظ باتیں درج میں کتاب اِس میں دلوں اپنے کر سن جو وہ ہیں مبارک ہاں، ہے۔ کرتا تلاوت کی نبوت اِس جو وہ ہے مبارک
گی۔ جائیں ہو پوری ہی

- 4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ: χάρις ὑμῖν καὶ
یوحنا اُن سات سات کلیسیاؤں-کو جو میں اُس ایشیا-میں-ہیں فضل تمہیں اور
[G2491](#) [G3588](#) [G2033](#) [G1577](#) [G3588](#) [G1722](#) [G3588](#) [G0773](#) [G5485](#) [G4771](#) [G2532](#)
- εἰρήνη, ἀπὸ ὁ ὧν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος; καὶ ἀπὸ
سلامتی اُس-سے جو اُس-سے جو ہے اور اور جو تھا اور جو آنے-والا-ہے اور اُن-سے اور
[G1515](#) [G0575](#) [G3588](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2064](#) [G2532](#) [G0575](#)
- τῶν ἑπτὰ Πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ;
اُن سات سات روحوں-سے جو جو سامنے اُس تخت-کے اُس-کے-ہیں
[G3588](#) [G2033](#) [G4151](#) [G3739](#) [G1799](#) [G3588](#) [G2362](#) [G0846](#)

ہے، جو سے طرف کی اُس رہے، حاصل سلامتی اور فضل سے طرف کی اللہ کو آپ ہے۔ لئے کے جماعتوں سات کی آسیہ صوبہ سے طرف کی یوحنا خط یہ ہیں، ہوتی سامنے کے تخت کے اُس جو سے طرف کی روحوں سات اُن ہے، والا آنے جو اور تھا جو

5	καὶ	ἀπὸ	Ἰησοῦ	Χριστοῦ,	ὁ	μάρτυς	ὁ	πιστός,	ὁ	πρωτότοκος	τῶν
	اور	یسوع-سے	یسوع	مسیح-سے	جو	گواہ	وہ	امین	وہ	پہلوٹھا	اُن
	G2532	G0575	G2424	G5547	G3588	G3144	G3588	G4103	G3588	G4416	G3588
	νεκρῶν.	καὶ	ὁ	ἄρχων	τῶν	βασιλέων	τῆς	γῆς.	Τῷ	ἀγαπῶντι	
	مُردوں-سے	اور	وہ	حاکم	اُن	بادشاہوں-کا	اِس	زمین-کے	اُس-کو	والے	محبت-کرنے-والے
	G3498	G2532	G3588	G0758	G3588	G0935	G3588	G1093	G3588	G0025	
	ἡμᾶς,	καὶ	λύσαντι	ἡμᾶς	ἐκ	τῶν	ἀμαρτιῶν	ἡμῶν,	ἐν	τῷ	αἵματι
	ہم-سے	اور	آزاد-کرنے-والے	ہمیں	سے	اُن	گناہوں-سے	ہمارے	میں	اُس	خون-میں
	G1473	G2532	G3089	G1473	G1537	G3588	G0266	G1473	G1722	G3588	G0129
	αὐτοῦ,										
	اپنے										
	G0846										

کی اُس ہے۔ سردار کا بادشاہوں کے دنیا اور والا اُٹھنے جی پہلا سے میں مُردوں گواہ، وفادار کا باتوں اِن جو سے اُس یعنی سے طرف کی مسیح عیسیٰ اور ہے بخشی خلاصی سے گناہوں ہمارے ہمیں سے خون اپنے نے جس ہے، کرتا پیار ہمیں جو ہو تمجید

6	καὶ	ἐποίησεν	ἡμᾶς	βασιλείαν,	ἱερεῖς	τῷ	Θεῷ	καὶ	Πατρὶ	αὐτοῦ:	αὐτῷ
	اور	بنایا	ہمیں	بادشاہی	کابن	اُس	خدا-کے	اور	باپ-کے	اپنے	اُسی-کی
	G2532	G4160	G1473	G0932	G2409	G3588	G2316	G2532	G3962	G0846	G0846
	ἡ	δόξα,	καὶ	τὸ	κράτος	εἰς	τοὺς	αἰῶνας	τῶν	αἰώνων.	ἀμήν.
	ہے	جلال	اور	وہ	قدرت	تا	زمانوں	کے	زمانوں-تک	آمین	
	G3588	G1391	G2532	G3588	G2904	G1519	G3588	G0165	G3588	G0165	G0281

آمین رہے! حاصل قدرت اور جلال تک ابد سے ازل اُسے ہے۔ دیا بنا امام کے باپ اور خدا اپنے کر دے اختیار شاہی ہمیں نے جس اور

7	Ἴδου,	ἔρχεται	μετὰ	τῶν	νεφελῶν,	καὶ	ὄψεται	αὐτὸν	πᾶς	ὀφθαλμός,	καὶ
	دیکھو	آتا-ہے	ساتھ	اُن	بادلوں-کے	اور	دیکھے-گی	اُسے	ہر	آنکھ	اور
	G3708	G2064	G3326	G3588	G3507	G2532	G3708	G0846	G3956	G3788	G2532
	οἵτινες	αὐτὸν	ἐξεκέντησαν,	καὶ	κόψονται	ἐπ’	αὐτὸν	πᾶσαι	αἰ	φυλαὶ	
	وہ-بھی-جنہوں-نے	اُسے	چھیدا	اور	ماتم-کریں-گے	اُس-پر	اُسے	سب	وہ	قبیلے	
	G3748	G0846	G1574	G2532	G2875	G1909	G0846	G3956	G3588	G5443	
	τῆς	γῆς.	ναί,	ἀμήν.							
	اِس	زمین-کے	ہاں	آمین							
	G3588	G1093	G3483	G0281							

گی۔ کریں زاری و آہ کر دیکھ اُسے قومیں تمام کی دنیا اور تھا۔ چھیدا اُسے نے جنہوں بھی وہ گا، دیکھے اُسے ایک ہر ہے۔ ربا آ ساتھ کے بادلوں وہ دیکھیں، آمین۔ ہوا! ہی ایسا ہاں،

8	Ἐγώ	εἰμι	τὸ	Ἄλφα	καὶ	τὸ	ᾠ,	{ἀρχὴ	καὶ	τέλος}	λέγει	Κύριος
	میں	ہوں	وہ	الفا	اور	وہ	اومیگا	ابتدا	اور	انتہا	فرماتا-ہے	خُداوند
	G1473	G1510	G3588	G0001	G2532	G3588	G5598	G0746	G2532	G5056	G3004	G2962
	ὁ	Θεός,	ὁ	ὢν,	καὶ	ὁ	ἦν,	καὶ	ὁ	ἐρχόμενος,	ὁ	Παντοκράτωρ.
	وہ	خُدا	جو	ہے	اور	جو	تھا	اور	جو	آنے-والا-ہے	وہ	قادر-مطلق
	G3588	G2316	G3588	G1510	G2532	G3588	G1510	G2532	G3588	G2064	G3588	G3841

خدا۔ [مطلق قادر یعنی ہے، والا آنے جو اور تھا جو ہے، جو وہ ہوں، آخر اور اوّل] آمین ہے، فرماتا خدا رب

9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν, καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει, καὶ
 میں یوحنا وہ بھائی تمہارا اور شریک اور مصیبت اور
[G1473](#) [G2491](#) [G3588](#) [G0080](#) [G4771](#) [G2532](#) [G4791](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2347](#) [G2532](#)

βασιλεία, καὶ ὑπομονῆ, ἐν Ἰησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ
 بادشاہی اور صبر-میں میں یسوع-میں تھا میں اس جزیرے-میں جو
[G0932](#) [G2532](#) [G5281](#) [G1722](#) [G2424](#) [G1096](#) [G1722](#) [G3588](#) [G3520](#) [G3588](#)

καλουμένη Πάτμω, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν μαρτυρίαν
 کہلاتا-ہے پتمس کی-وجہ-سے اس کلام اس خدا-کے اور اس گواہی
[G2564](#) [G3963](#) [G1223](#) [G3588](#) [G3056](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3141](#)

Ἰησοῦ.
 یسوع-کی
[G2424](#)

میں عیسیٰ اور ہوں شریک میں بادشاہی کی اللہ ساتھ کے آپ میں ہے۔ رہا جا کیا ظلم طرح کی آپ بھی پر مجھ ہوں۔ حال شریک اور بھائی کا آپ یوحنا میں دیا چھوڑے کہلاتا پتمس جو میں جزیرے اس سے وجہ کی دینے گواہی میں بارے کے عیسیٰ اور سنانے کلام کا اللہ مجھے ہوں۔ رہتا قدم ثابت ساتھ کے آپ گیا۔

10 ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἦκουσα ὀπίσω μου
 ہوا میں روح-میں میں اس خُداوند-کے دن اور سنی پیچھے اپنے
[G1096](#) [G1722](#) [G4151](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2960](#) [G2250](#) [G2532](#) [G0191](#) [G3694](#) [G1473](#)

φωνὴν μεγάλην, ὡς σάλπιγγος,
 آواز بڑی جیسی نرسنگے-کی
[G5456](#) [G3173](#) [G5613](#) [G4536](#)

سنی۔ آواز اونچی ایک سی کی ٹرم پیچھے اپنے نے میں اور گیا آ میں گرفت کی القدس روح میں کو اتوار یعنی دن کے رب

11 λεγούσης, {Ἐγὼ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω ὁ πρῶτος καὶ ὁ
 کہتی میں ہوں وہ الفا اور وہ اومیگا وہ پہلا اور وہ
[G3004](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3588](#) [G0001](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5598](#) [G3588](#) [G4413](#) [G2532](#) [G3588](#)

ἔσχατος; καὶ}, Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς ἐπτά
 آخری اور جو دیکھتا-ہے لکھ میں کتاب اور بھیج ان سات
[G2078](#) [G2532](#) [G3739](#) [G0991](#) [G1125](#) [G1519](#) [G0975](#) [G2532](#) [G3992](#) [G3588](#) [G2033](#)

ἐκκλησίαις: εἰς Ἔφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς
 کلیسیاؤں-کو یعنی افسس اور کو سمرنہ اور کو برگمن اور کو
[G1577](#) [G1519](#) [G2181](#) [G2532](#) [G1519](#) [G4667](#) [G2532](#) [G1519](#) [G4010](#) [G2532](#) [G1519](#)

Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν.
 تھواتیرہ اور کو سردیس اور کو سردیس اور کو فلدفلیہ اور کو لودکیہ
[G2363](#) [G2532](#) [G1519](#) [G4554](#) [G2532](#) [G1519](#) [G5359](#) [G2532](#) [G1519](#) [G2993](#)

اور فلدفلیہ سردیس، تھواتیرہ، پرگمن، سمرنہ، افسس، جو دینا بھیج کو جماعتوں سات ان کر لکھ میں کتاب ایک اسے ہے رہا دیکھ تو کچھ جو کہا، نے اس میں لودکیہ

12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἣτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ. καὶ
 اور مڑا دیکھنے-کو وہ آواز جو بول-ربی-تھی ساتھ میرے اور
[G2532](#) [G1994](#) [G0991](#) [G3588](#) [G5456](#) [G3748](#) [G2980](#) [G3326](#) [G1473](#) [G2532](#)

ἐπιστρέψας, εἶδον ἐπτά λυχνίας χρυσᾶς,
 مڑ-کر دیکھا سات چراغ-دان کے سونے-کے
[G1994](#) [G3708](#) [G2033](#) [G3087](#) [G5552](#)

دیکھے۔ دان شمع سات کے سونے تو ڈالی نظر پیچھے اپنے لئے کے دیکھنے کو والے بولنے نے میں

13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν, ὅμοιον υἷὸν ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη,
 اور میں درمیان اُن چراغ-دانوں-کے مانند بیٹا انسان-کے پہنے-بوئے لمبا-جامہ
 [G2532](#) [G1722](#) [G3319](#) [G3588](#) [G3087](#) [G3664](#) [G5207](#) [G0444](#) [G1746](#) [G4158](#)

καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς, ζώνην χρυσᾶν.
 اور باندھے-بوئے پاس اُن کے-سینے-کے پنکا سونے-کا
 [G2532](#) [G4024](#) [G4314](#) [G3588](#) [G3149](#) [G2223](#) [G5552](#)

تھا۔ بوا باندھا بند سینہ کا سونے پر سینے اور تھا رکھا پہن چوغہ لمبا کا تک پاؤں نے اُس تھا۔ مانند کی آدم ابن جو تھا کھڑا کوئی درمیان کے دانوں شمع ان

14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἶ τρίχες λευκαί, ὡς ἔριον, λευκὸν ὡς
 اور پھر سر اُس-کا اور وہ بال سفید اون سفید جیسے
 [G3588](#) [G1161](#) [G2776](#) [G0846](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2359](#) [G3022](#) [G5613](#) [G2053](#) [G3022](#) [G5613](#)

χιῶν; καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλόξ πυρός;
 برف اور وہ آنکھیں اُس-کی جیسے شعلہ آگ-کا
 [G5510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3788](#) [G0846](#) [G5613](#) [G5395](#) [G4442](#)

تھیں۔ مانند کی شعلے کے آگ آنکھیں کی اُس اور تھے سفید جیسے برف یا اُون بال اور سر کا اُس

15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένης;
 اور وہ پاؤں اُس-کے مانند چمکنے-پیتل-کے جیسے میں بھٹی-میں تپائے-بوئے
 [G2532](#) [G3588](#) [G4228](#) [G0846](#) [G3664](#) [G5474](#) [G5613](#) [G1722](#) [G2575](#) [G4448](#)

καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ, ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν;
 اور وہ آواز اُس-کی جیسے آواز پانیوں-کی بہت
 [G2532](#) [G3588](#) [G5456](#) [G0846](#) [G5613](#) [G5456](#) [G5204](#) [G4183](#)

تھی۔ جیسی شور کے آبخار آواز کی اُس اور تھے مانند کی پیتل دمکنے میں بھٹے پاؤں کے اُس

16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ, ἀστέρας ἑπτὰ, καὶ ἐκ τοῦ
 اور رکھے-بوئے میں اُس دائیں ہاتھ اپنے ستارے سات اور سے اُس
 [G2532](#) [G2192](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1188](#) [G5495](#) [G0846](#) [G0792](#) [G2033](#) [G2532](#) [G1537](#) [G3588](#)

στόματος αὐτοῦ, ῥομφαία δίστομος ὄξεια, ἐκπορευομένη; καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ,
 منہ اُس-کے تلوار دو-دھاری تیز نکلتی-تھی اور وہ چہرہ اُس-کا
 [G4750](#) [G0846](#) [G4501](#) [G1366](#) [G3691](#) [G1607](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3799](#) [G0846](#)

ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
 جیسے وہ سورج چمکتا-ہے میں اُس قوت-میں اپنی
 [G5613](#) [G3588](#) [G2246](#) [G5316](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1411](#) [G0846](#)

چمکنے سے زور پورے چہرہ کا اُس تھی۔ ربی نکل تلوار دھاری دو اور تیز ایک سے منہ کے اُس اور تھے رکھے تھام ستارے سات نے اُس میں ہاتھ دہنے اپنے تھا۔ ربا چمک طرح کی سورج والے

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, ὡς νεκρός. καὶ
 اور جب دیکھا اُسے گرا پر اُن پاؤں اُس-کے جیسے مُردہ اور
 [G2532](#) [G3753](#) [G3708](#) [G0846](#) [G4098](#) [G4314](#) [G3588](#) [G4228](#) [G0846](#) [G5613](#) [G3498](#) [G2532](#)

ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ' ἐμέ, λέγων Μὴ φοβοῦ; ἐγὼ εἶμι ὁ
 رکھا وہ دایاں-ہاتھ اپنا پر مجھ کہتے-بوئے نہ ڈر میں ہوں وہ
 [G5087](#) [G3588](#) [G1188](#) [G0846](#) [G1909](#) [G1473](#) [G3004](#) [G3361](#) [G5399](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3588](#)

πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος;
 پہلا اور وہ آخری
 [G4413](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2078](#)

ہوں۔ آخر اور اوّل میں ڈر۔ مت کہا، کر رکھ پر مجھ ہاتھ دہنا اپنا نے اُس پھر تھا۔ سا مُردہ میں گیا۔ گر میں پاؤں کے اُس میں ہی دیکھتے اُسے

18 καὶ ὁ Ζῶν. καὶ ἐγενόμην νεκρὸς, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς
 اور وہ زندہ اور ہوا مُردہ اور دیکھو زندہ ہوں تا اُن
[G2532](#) [G3588](#) [G2198](#) [G2532](#) [G1096](#) [G3498](#) [G2532](#) [G3708](#) [G2198](#) [G1510](#) [G1519](#) [G3588](#)

αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου. καὶ τοῦ
 زمانوں کے زمانوں-تک اور رکھتا-ہوں وہ کنجیاں اُس موت-کی اور اُس
[G0165](#) [G3588](#) [G0165](#) [G2532](#) [G2192](#) [G3588](#) [G2807](#) [G3588](#) [G2288](#) [G2532](#) [G3588](#)

Ἰδοῦ.

عالم-ارواح-کی
[G0086](#)

ہیں۔ میں ہاتھ میرے کنجیاں کی پاتال اور موت اور ہوں۔ زندہ تک ابد میں دیکھ، اب لیکن تھا گیا مر تو میں ہے۔ زندہ جو ہوں وہ میں

19 γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἃ εἰσὶν, καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ
 لکھ پس جو دیکھا اور جو ہے اور جو ہونے-والا ہے ہونا بعد
[G1125](#) [G3767](#) [G3739](#) [G3708](#) [G2532](#) [G3739](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3739](#) [G3195](#) [G1096](#) [G3326](#)

ταῦτα.

ان-کے
[G3778](#)

دے۔ لکھ اُسے گا ہو آئندہ جو اور ہے ابھی جو ہے، دیکھا نے تو کچھ جو چنانچہ

20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων, οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ
 وہ بھید اُن سات ستاروں-کا جنہیں دیکھا پر اُس دائیں میرے اور
[G3588](#) [G3466](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0792](#) [G3739](#) [G3708](#) [G1909](#) [G3588](#) [G1188](#) [G1473](#) [G2532](#)

τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσαῖς; οἱ ἑπτὰ ἀστέρες, ἄγγελοι τῶν ἑπτὰ
 وہ سات چراغ-دان وہ سونے-کے وہ سات ستارے فرشتے اُن سات
[G3588](#) [G2033](#) [G3087](#) [G3588](#) [G5552](#) [G3588](#) [G2033](#) [G0792](#) [G0032](#) [G3588](#) [G2033](#)

ἐκκλησιῶν εἰσὶν; καὶ αἱ λυχνίαι αἱ ἑπτὰ, ἑπτὰ ἐκκλησίαι εἰσὶν.
 کلیسیاؤں-کے ہیں اور وہ چراغ-دان وہ سات سات کلیسیاں ہیں
[G1577](#) [G1510](#) [G2532](#) [G3588](#) [G3087](#) [G3588](#) [G2033](#) [G2033](#) [G1577](#) [G1510](#)

سات یہ اور ہیں، فرشتے کے جماعتوں سات کی آسیہ ستارے سات یہ ہے: یہ مطلب پوشیدہ کا دائوں شمع سات اور ستاروں سات میں ہاتھ دہنے میرے
 ہیں۔ جماعتیں سات یہ دان شمع